

73402-ریکارڈ شدہ سجدہ تلاوت کی آیت سننے پر کیا سجدہ تلاوت کریگا؟

سوال

ایک مسلمان پر سجدہ تلاوت کرنا کب واجب ہوتا ہے؟ اور اس کیلئے ہم پر کیا کرنا واجب ہے؟ اور کیا ہم سوتے وقت قرآن مجید سن سکتے ہیں؟ یعنی کہ میں سو جاؤں اور قرآن مجید کی تلاوت چلتی رہے؟

اور اگر میں کمپیوٹر پر قرآن مجید کی تلاوت سن رہا ہوں اور سجدہ تلاوت کی آیت آئے تو میں کیا کروں؟
اس متعلق بھی وضاحت فرمادیں کہ سورہ مریم میں ایک آیت ہے کہ جب ہم اللہ کی آیات سنیں تو ہمیں روتے ہوئے سجدے میں گر جانا چاہیے؟

پسندیدہ جواب

اول:

قرآن مجید میں سجدہ تلاوت پندرہ مقامات پر آیا ہے، اور ان سب کا بیان سوال نمبر: (5126) کے جواب میں پہلے گزر چکا ہے۔

دوم:

ان تمام جگہوں پر سجدہ تلاوت کرنا تلاوت کرنے اور سننے والے پر مستحب ہے، واجب نہیں ہے، سجدہ تلاوت کا ارادہ ہو تو تکبیر کہے، اور سجدہ کرے، سجدے میں وہی دعا کر سکتا ہے جو نماز کے سجدے میں کرتا ہے، اس کے بعد بغیر تکبیر کہے سجدہ سے سر اٹھائے، اس میں تشہد اور سلام نہیں ہے، اور اگر سجدہ تلاوت نماز میں ہے تو سجدہ سے سر اٹھاتے ہوئے بھی تکبیر کہے۔

اس بارے میں مزید وضاحت کیلئے سوال نمبر: (22650) اور (4890) کا جواب ملاحظہ کریں

سوم:

سوتے وقت قرآن مجید سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت سنا دلی سکون اور شرح صدر کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: (الَّذِينَ آمَنُوا تَتَجَمَّعُهُمْ نَجْمًا مِّنَ الْقُلُوبِ) خبر دار! اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے [الرعد: 28]

چارم:

کمپیوٹر یا ٹیپ ریکارڈر سے تلاوت سننے ہوئے سجدہ تلاوت کی آیت پر سجدہ کرنے سے متعلق ظاہر حکم یہی ہے کہ اس وقت سجدہ کرنا شرعی عمل نہیں ہے، متقدم علمائے کرام نے اسی سے ملے جلے ایک مسئلہ کے بارے میں صراحت سے لکھا ہے، جیسا کہ "فتاویٰ عالمگیری" (1/133) فقہ حنفی کی کتاب میں ہے کہ:
"اگر کسی نے سجدہ تلاوت والی آیت کی گونج سنی تو اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا" انتہی
اور یہی صورت ٹیپ ریکارڈر وغیرہ سے تلاوت سننے کی ہے۔

اسی متعلق شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا:

"اگر انسان ٹیپ ریکارڈر سے قرآن کریم کی تلاوت سن رہا ہو، اور سجدہ تلاوت والی آیت پڑھے تو کیا سجدہ کریگا؟"

تو انہوں نے جواب دیا:

"تلاوت سننے والے کیلئے سجدہ کرنا اسی وقت جائز ہوگا جب تلاوت کرنے والا بھی سجدہ کرے، کیونکہ آپ کو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے سورہ نجم کی تلاوت سنائی تو سجدہ نہیں کیا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا، تو اس سے معلوم ہوا کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو سجدہ تلاوت ترک کرنے پر کچھ نہیں کہا، اسی طرح اس حدیث میں یہ بھی دلالت ہے کہ تلاوت سننے والا اس وقت تک سجدہ نہ کرے جب تک تلاوت کرنے والا سجدہ نہیں کرتا" انتہی

"مجموع فتاویٰ ابن باز" (11/415) اسی سے ملے جلتی گفتگو "الشرح الممتع" (4/133) میں بھی ہے۔

پہنچ:

سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے (جس کی وضاحت مطلوب ہے):

(إِذَا تَنَزَّلَ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرَوْا سُجَّدًا وَبُكِيًّا)

ترجمہ: اور جب ان پر رحمن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔

تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام، رسل، اور اللہ کے ہدایت یافتہ و چنیدہ بندوں کی مدح سرائی ہے کہ وہ اللہ سے کمال خشیت، اور بارگاہ الہی میں عاجزی و انکساری کی وجہ سے جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔

اسی آیت کی وجہ سے علمائے کرام نے تلاوت قرآن کرتے ہوئے یا سنتے ہوئے رونے کو مستحب قرار دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب اس آیت کو پڑھتے تو نہ رونے کی وجہ سے اپنے آپ کو سرزنش کرتے ہوئے فرماتے: "سجدہ تو کر لیا، وہ رونے کی کیفیت کہاں ہے؟"

اسی طرح تلاوت قرآن سننے وقت اہل علم کی کیفیت ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا تَنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُجْدًا ۖ وَيَتَوَلَّوْنَ سُجَانٍ رَبَّنَا إِنَّكَ كَانَتْ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا * وَتَجَرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَسْكُونُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا)

ترجمہ: آپ کہہ دیں: تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان پر جب تلاوت کی جاتی ہے تو اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں [107] اور کہتے ہیں: ہمارا پروردگار پاک ہے، بیشک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا ہے [108] اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، اور ان کا خشوع زیادہ ہو جاتا ہے۔ [الاسراء:]

[109-107]

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کما حقہ خشیت، اور کما حقہ تقویٰ اختیار کرنے والوں میں سے بنائے۔

واللہ اعلم۔